

تبصرے

سرسید اور اصلاح معاشرہ : از جناب شاہد حسین صاحب رزاقی -

تفطیح متوسط ، ضخامت ۲۵۵ صفحات - کتابت و طباعت بہتر - قیمت ۲/۲۵

پتہ :- ادارہ ثقافت اسلامیہ - کلب روڈ لاہور -

سرسید کو قدرت کی طرف سے دل بیدار و دماغ روشن ملا تھا۔ اس لئے انہوں نے ۱۸۵۷ء

کے ہنگامہ سے بھی بہت پہلے مسلمانوں کا ہمہ جہتی انحطاط و تنزل دیکھا تو ان کا جی بھر آیا۔ اور انہوں

نے اس قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھالیا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے تہذیب الاخلاق نام سے ایک

رسالہ جاری کیا جس میں انہوں نے مسلسل مضامین لکھ کر مسلمانوں کی معاشرتی اخلاقی اور مذہبی

گمراہیاں ایک ایک کر کے بیان کیں اور قرآن و حدیث، عقل و فلسفہ اور تاریخ و علم الکلام کی

روشنی میں بحث کر کے ان کی اصلاح کی صورتیں بتائیں، لائق مرتب نے سرسید کی ان تمام

اصلاحی کوششوں کی کہانی خود سرسید کی زبانی سنائی ہے۔ اس کتاب میں سرسید کے زمانہ میں

مسلمانوں کے حالات اور اس کے بعد معاشرہ، تعلیم، دینی عقائد، اخلاق و عادات، رسوم و رواج،

تمدن اور طرز معاشرت، ملی اتحاد اور مذہبی رواداری، عورتوں کے حقوق کا تحفظ، ان سب عنوانات

کے ماتحت نو ابواب میں سرسید کی تحریریں اس خوش اسلوبی اور سلیقہ سے مرتب کر دی گئی ہیں کہ قاری

میاختہ طور پر سرسید کی عظمت فکر و خیال کے ساتھ ان کی قوت تحریر و انشا کے کمال کا بھی قائل